

رب رحمان

درد کا بحر بے کراں بھی  
میرے دکھوں کا درماں ہوا

خوشیاں تو مرے پاس ہی تھیں  
جب بھی دکھ سے گریاں ہوا

چاروں اور میرا ڈنکا بجا  
ذرا جو رونق طاق نسیاں ہوا

منزلیں مرے جلو میں چلیں  
جب بھی یکے ازہروواں ہوا

مقصود مری ہی تلاش میں تھا  
جب تلاش یار میں حیراں ہوا

اسی ذات پاک نے سنبھالامجھے  
وزنی جو مرا بار عصیاں ہوا

کاہے ڈرائے کوی بد ذات مجکو  
جب حامی مرا رب رحماں ہوا

مُحَمَّدٌ ظَفَرَ اللّٰهَ

وزن سے گرتا ہے تو گرنے دو  
بات پتے کی مجھکو کہنے دو